

APPLICATION FORM OF HAJJ, 2025

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| Division | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Directorate | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Factory/Firm | | | | | | | | | | | | | |
| Designation | | | | | | | | | | | | | |
| Religion | | | | | | | | | | | | | |
| CNIC | | | | | | | | | | | | | |
| Date of Birth | | | | | | | | | Age in years | | | | |
| Passport No. | | | | | | | | | | | | | |
| Date of Expiry of Passport | | | | | | | | | | | | | |
| EOBI # | | | | | | | | | | | | | |
| WWF # | | | | | | | | | | | | | |
| Service in present Factory | | | | | | | | | | | | | |
| At least 07 year regular contribution | | | | | | | | | | | | | |
| Cell No. | | | | | | | | | | | | | |
| Address of Applicant | | | | | | | | | | | | | |
| Whether Hajj performed earlier? (from ____ to Year ____ Year | <input type="checkbox"/> Yes | | | | <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| List of documents attached Attested copy of valid CNIC of applicant <input type="checkbox"/> Medical fitness certificate <input type="checkbox"/> Copy of passport <input type="checkbox"/> Attested affidavit in case passport is not available <input type="checkbox"/> NOC from employer <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | I hereby solemnly affirm and declare that above statement is correct, to the best of my knowledge and belief. I hereby undertake to comply with all the terms and conditions imposed by the Institution from time to time in connection with the policy. |
|---|--|--|

Signature of Applicant

Certificate from Employer

Certified that Mr./Ms./Mrs. _____ is working in this Factory/Firm as) _____ under employee _____ since _____. He has _____ years service at his/her credit. He is a Muslim and has religious bent of mind. He has not performed Hajj before. His age is more than 50 years. Medical fitness certificate issued by the Doctor of IESSI is enclosed.

Signature / Stamp of Employer

Certified that Mr./Ms./Mrs. _____ is secured employee of M/s _____ under SS No. _____ and his /her contribution is being received regularly since. Further, he/she is eligible for performance of Hajj on the expenses of institution as per prevailing policy of the Institution.

ASST DIR (Recovery)

Administrator Data Centre

Commissioner, IESSI

آئی ای ایس ایس آئی فنڈ کے تحت محفوظ کارکنوں کے لئے فریضہ حج کی ادائیگی کے شرائط و ضوابط

اہلیت کا معیار:

مندرجہ ذیل شرائط و ضوابط ہوں گے

- 1) رجسٹرڈ اداروں / یونٹوں کے ساتھ کام کرنے والے تمام مسلم ملازمین جن کی عمر 30-55 سال کے درمیان ہے وہ آئی ای ایس ایس آئی کے فنڈ سے حج کرنے کے اہل ہوں گے۔ ملازم کے پاس کم از کم 07 سال کی ملازمت ہونی چاہیے اور سوشل سیکیورٹی کانسٹریبیوشن کی تصدیق آئی ای ایس ایس آئی کی ریکوری برانچ کے ذریعے کی جائے گی۔
- 2) آجر کی طرف سے این او سی لازمی ہے۔
- 3) اس سے پہلے حج نہ کیا ہو۔
- 4) آئی ای ایس ایس آئی / سرکاری اسپتالوں کے مجاز میڈیکل اٹینڈنٹ کے ذریعہ حج کی ادائیگی کے لئے طبی طور پر فٹ قرار دیا گیا ہو۔
- 5) آجر کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے کہ ملازم کا سروس ریکارڈ اچھا ہے۔
- 6) محفوظ کارکن ایک حلف نامہ پیش کرے گا کہ اس نے سرکاری کوٹے پر کسی دوسرے سرکاری محکمے سے حج نہیں کیا ہے۔
- 7) آئی ای ایس ایس آئی اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جانور کی قیمت برداشت نہیں کرے گا۔

طریقہ کار:

1. ملازمین سے درخواستیں وفاقی حکومت کی طرف سے درخواستوں کی دعوت کی تاریخ سے ایک ماہ قبل مقررہ فارم پر طلب کی جائیں گی۔
2. درخواست فارم آئی ای ایس ایس آئی کی ویب سائٹ WWW.IESSI.gov.PK سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
3. تمام نامزدگیاں مقررہ فارم پر مکمل طور پر پر کی جانی چاہئیں اور نامکمل معلومات پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
4. حج کی درخواست کے ساتھ مشین سے پڑھنے کے قابل پاسپورٹ جو کم از کم 31/12/25 تک درست ہو کے علاوہ ویلڈ CNIC اور میڈیکل سرٹیفکیٹ منسلک کریں۔
5. درخواستیں طلب کرتے وقت اخبار میں اشتہار دیا جائے گا۔
6. انتخاب کمپیوٹر ایزڈ سیلنگ کے ذریعے کیا جائے گا۔
7. ایک نشست کے خلاف دو ٹنگ کے ذریعے دو امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ پرنسپل امیدوار کی عدم موجودگی میں کورنگ امیدوار کا انتخاب کیا جائے گا۔
8. محفوظ کارکن کے قیام کی مدت ایک ماہ سے زیادہ یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ مدت سے زیادہ نہیں ہوگی۔
9. منتخب خواتین ملازم اپنے مرد محافظ / مرد سرپرست کا خرچ برداشت کریں گی۔

10. اگر خاتون کارکن نے مقررہ وقت کی حد میں اپنے مرد محافظ کے اخراجات کا انتظام نہیں کیا تھا، تو ادارہ کی طرف سے نامزدگی کو مسترد کر دیا جائے گا۔

11. حج کے اخراجات کے علاوہ کوئی اور اخراجات ادارہ کی طرف سے ادا کیے نہیں جائے گی

12. ادارہ کا فیصلہ فائنل ہوگا۔

FESSSI